

ضرور کر لیا جائے۔

لغت میں سے ”مقائیس اللغۃ“ اور ”المفردات فی غرب القرآن“ ضرور سامنے رہنا چاہیے۔
قرآن کی تلاوت کم از کم ایک ربيع (ربیع) ضرور کی جائے اور خوب سمجھ کر کی جائے۔ جہری نمازوں میں
امام کی قرأت غور سے سنی جائے، خاص کر صبح کی نماز! — اگر پچھلے کی عادت ہو تو قرأت کرتے وقت
اس پر خوب غور کیا جائے!

۳۔ محمد علی ذہن:

تعملاً واقعی مبارک ہے، اگر اس کے حصول کیلئے بھاگ دوڑ کی جائے تو لبِ بام کچھ دور بھی
نہیں ہے۔ مثلاً:

آپ بخاری شریف شروع کرتے ہیں، اس کی پہلی روایت آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ لب
اس سلسلے کی:

۱۔ اسانید کا تتبع کریں، کہاں کہاں راوی بدلے یا بڑھے ہیں؟

۲۔ یہ حدیث اور کس کس محدث نے روایت کی ہے؟

۳۔ ہر محدث کی سند میں کوئی خاص اور امتیازی بات ہے تو اسے ضرور نوٹ کریں۔

۴۔ اس روایت کے متن کا جائزہ لیں، کہاں اجمال ہے اور کہاں تفصیل؟ — اور اس تفصیل سے حدیث کا
مفہوم کیا متعین ہوتا ہے اور روایت کے الفاظ کی کمی بیشی یا تبدیلی سے حدیث کی زمین اب کیا تیار
ہوتی ہے؟ — اسے ضرور یاد رکھئے!

پھر یہ دیکھیں کہ ائمہ حدیث نے بعض راوی یا متن کے بعض الفاظ پر کوئی نقد و جرح کی ہے تو اس کے
اسباب اور علل کا جائزہ لیں۔ گویہ کام مشکل ہے تاہم دو تین سال کے عرصہ میں ”ذہن“ بن سکتا ہے اور
شرح صدر حاصل ہو سکتی ہے۔

کتب کی حد تک:

جامع الاصول، مجمع الزوائد، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، المطالب العالیہ،
سنن کبریٰ بہتی، نصب الرایۃ للزیلعی، تلخیص الحمیر لابن حجر، فتح الباری لابن حجر، میزان الاعتدال، الاستیعاب
ابن عبدالبر، شرح السنۃ لبعثی، دارقطنی مع تعلیق المغنی، کتاب العلل لابن ابی حاتم، کتاب العلل للترمذی،
ترمذی مع تحفۃ الاحادیث سے ضرور واسطہ رکھیں۔

مجمع البحار، نہایت، فائق للذمخشری کی طرف بھی ضرور رجوع کیا جائے تاکہ روایات کے مفہوم کے